

9- ایمان با لآخره Faith in the Hereafter

موت اور واپسی Death and Return

1. **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ**
جو (مخلوق) زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے ﴿۵۵﴾ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات (بابرکات) جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ ﴿۵۵﴾ (26/μ : 55)

All that is on earth will perish: ﴿۵۵﴾ But the Face of your Lord will abide for ever, - full of Majesty, Bounty and Honour. ﴿۵۵﴾
(55: Ar-Rahm'an\26-27)

2. **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ**
ہر تنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ ﴿۲۹﴾ (29/y: 29)
Every soul shall have a taste of death, then to Us shall you be brought back. ﴿۲۹﴾ (29: Al-Ankabut\57)

3. **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ**
ہر تنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا ابداد یا جائے گا۔ توجو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ ﴿۱۸۵﴾ (3: 185)
Every soul shall have a taste of death: And on the Day of Judgment shall you be paid your full recompense. Only he who is saved from the Fire and admitted to the Garden will have attained the object: For the life of this world is not but provision of vanities. ﴿۱۸۵﴾ (3: A'l-e-Imran\185)

4. **اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ**
اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی اس کو پھر پیدا کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ ﴿۳۰﴾ (30/z : 30)
It is Allah Who originates creation, then repeats it, then shall you be brought back to Him. ﴿۳۰﴾ (30: Ar-Rum\11)

یوم القیامہ / یوم الحشر / Resurrection/ Doom's Day

1. وَإِنْ كُلٌّ لَنَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٦﴾

اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ ﴿٣٦﴾ (36: Ya-Sin\32)

But each one of them all - will be brought before Us (for judgment) ﴿٣٦﴾ (36: Ya-Sin\32)

2. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْبُوعُونَ ﴿٥٦﴾ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٧﴾

کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے ﴿٥٦﴾ (سب) ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کئے جائیں گے۔ ﴿٥٧﴾

(56: Al-Waqia'h\49-50)

Say: "The ancients and and those of later times, ﴿٥٦﴾ "All will certainly be gathered together for the meeting at appointed time for a well-known day. ﴿٥٧﴾ (56: Al-Waqia'h\49-50)

3. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَا نَبِئَتَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا

مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

اور (جس وقت) صور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے (نکل کر) اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے ﴿٥١﴾

کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگا ہوں سے کس نے (جگا) اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں

نے سچ کہا تھا ﴿٥٢﴾ صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے ﴿٥٣﴾ اس روز

کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ دیا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ ﴿٥٤﴾ (36: Ya-Sin\51-54)

The trumpet shall be sounded, when behold! from the graves

(people) will rush forth to their Lord! ﴿٥١﴾ They will say: "Ah! Woe to us!

Who has raised us up from our beds of repose?" "This is what (Allah) most

Gracious had promised and true was the word of the messengers!" ﴿٥٢﴾ It will

be no more than a single cry, when indeed they will all be brought up before

Us! ﴿٥٣﴾ Then, on that day, no soul will be wronged the least, and you shall

but be repaid the rewards of your past deeds. ﴿٥٤﴾ (36: Ya-Sin\51-54)

4. قُلْ اللَّهُ يُجِيبُكُمْ ثُمَّ يَحْكُمُ لَكُمْ ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَرْبَابٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٥٥﴾ وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشا ہے پھر (وہی) تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو قیامت کے روز جس (کے آنے)

میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ﴿45: 26/a﴾

Say: "It is Allah Who gives you life, then gives you death; then He will gather you together for the day of Resurrection about which there is no doubt, but most of the people do not understand. ﴿45:Al-Jasiyah\26﴾

5. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً ۗ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ۗ الْيَوْمَ تُحْجَرُونَ ۗ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّا كُنَّا سَمَّاتُنَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ أَفَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ فَاستَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿

اور تم ہر ایک فریق کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا۔ اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب (اعمال) کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا ﴿ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچا بیان کر دے گی۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے ہیں ﴿ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پورا پورا دگار انہیں رحمت (کے باغ) میں داخل کرے گا۔ یہی صریح کامیابی ہے ﴿ اور جنہوں نے کفر کیا۔ (ان سے کہا جائے گا کہ) بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ ﴿

(45: 28/a -31)

And you will see every nation kneeling down. Every nation will be called to its record: "This day shall you be recompensed for all that you did! ﴿ "Our record speaks about you with truth. Indeed We have been recording what you were doing. ﴿ Then, as to those who believed and did righteous deeds, their Lord will admit them to His mercy that will be the manifest achievement. ﴿ But as to those who disbelieved, (to them will be said): "Were not Our verses recited to you? But you were arrogant, and you were a guilty people." ﴿ (45: Al-Jasiyah\28-31)

6. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا۔ اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ ﴿ (2: 281/2)

And fear the day when you shall be brought back to Allah. Then shall every soul be paid what it earned, and none shall be dealt with unjustly. ﴿ (2: Al-Baqarah\281)

7. إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۗ يَوْمَ يَنْفَعُ فِي الصُّورِ فَنُكَاثُونَ أَقْوَابًا ۗ

بے شک فیصلہ کا دن مقرر ہے ﴿﴾ جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہو

﴿﴾ نئے۔

(78: An-Nb'a\17-18)

Verily the day of sorting out is a thing appointed, ﴿﴾ The day that the trumpet shall be blown and you shall come forth in crowds. ﴿﴾

(78: An-Nb'a\17-18)

8. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۗ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۗ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۗ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَا ۗ

جس دن روح (الامین) اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو اللہ رحمن (اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو ﴿﴾ یہ دن برحق ہے۔ پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے

پاس ٹھکانہ بنائے۔ ﴿﴾ (78: An-Nab'a\38-39)

The day that the Spirit and the angels will stand forth in ranks, none shall speak except those permitted by (Allah) most Gracious, and the person shall speak what is right. ﴿﴾ That day is surely a reality: Therefore, let him, who will, take a refuge with his Lord. ﴿﴾ (78: An-Nab'a\38-39)

9. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكْمَلُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿﴾

آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں (اس کی) گواہی دیں گے۔ ﴿﴾ (36: Ya-Sin\65)

That day We shall put seal on their mouths and their hands will speak to Us, and their feet bear witness, to all that they did. ﴿﴾

(36: Ya-Sin\65)

10. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۗ لَا يُجِيبُهَا لَوْ قُبِهَا إِلَّا هُوَ ۗ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿﴾

(یہ لوگ) آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ کہہ دیں کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے۔ وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان وزمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آجائے گی۔ یہ آپ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا آپ اس کی کھوج میں ہیں۔ کہتے

کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ ﴿7: 184/c﴾

They ask you about the Hour - when will be its appointed time? Say:

“The knowledge thereof is with my Lord alone. None but He can reveal as to when it will happen. Heavy it is in the heavens and the earth. Only, all of a sudden will it come to you.” They ask you as if you were solicitous: Say: “The knowledge thereof is with Allah (alone), but most people know not.”

﴿7: Al-A'raf\187﴾

11. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿16: 1/﴾
اور (اللہ کے نزدیک) قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

And the happening the time of Judgment is like twinkling of an eye, or even faster. Indeed Allah is all Powerful over everything. ﴿16: An-Nahl\77﴾

12. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿33: 63/﴾
اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو۔

And what will make you understand? - May be the Hour is near. ﴿33: Al-Ahzab\63﴾

13. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿54: 4/﴾
ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے۔

Nay, the Hour is their promised time and that Hour is hardest most bitter. ﴿54: Al-Qamar\46﴾

14. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۖ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ عَنِ أَرْضِهَا وَنَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿22: 1/r﴾

لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو۔ کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہوگا ﴿22: 1/r﴾ (اے مخاطب) جس دن تو اس کو دیکھے گا (اس دن یہ حال ہوگا کہ) تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے۔ اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ (عذاب دیکھ کر) مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ﴿22: 1/r﴾

O mankind! Fear your Lord. Indeed the catastrophe of the Hour will be a terrible thing. ﴿22: 1/r﴾ The day you shall see it, every mother giving suck

shall forget her suckling-babe, and every pregnant female shall drop her load. You shall see mankind as if they are drunk, though they will not be drunk, but Allah's wrath will be dreadful. ﴿22: Al-Hajj\1-2﴾

15. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَا أَيْ رَبِّكَ أَوْ لِمَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی ﴿﴾ اور زمین اپنے (اندر) کے بوجھ نکال ڈالے گی ﴿﴾ اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ ﴿﴾ اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی ﴿﴾ کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا (ہوگا) ﴿﴾ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائیے جائیں ﴿﴾ تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا ﴿﴾ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ﴿99: 1﴾

When the earth is shaken to her full shaking, ﴿﴾ and the earth throws out her burdens, ﴿﴾ And people say what has befallen on her? - ﴿﴾ On that day she will tell her news. ﴿﴾ Because surely your Lord would have given her the intuition, ﴿﴾ On that day people will proceed in companies sorted out, to be shown the deeds that they (had done). ﴿﴾ Then shall anyone who has done an atom's weight of good, see it (7) and anyone who has done an atom's weight of evil, shall see it. ﴿99: Az-Zilzal\1-8﴾

16. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿﴾
اللہ (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ ﴿4﴾ (8/1)

Allah! There is no God save Him: of a surety He will gather you together on the Day of Judgment about which there is no doubt. And whose words can be truer than Allah? ﴿4: An-Nis'a\87﴾

17. آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿﴾
تم جہاں رہو گے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ﴿2﴾ (138/2)

Wherever you are Allah will bring you all together. For Allah has power over all things. ﴿2: Al-Baqara'h\ 148﴾

18. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿﴾

اور قیامت کے دن اس کے سامنے سب اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ ﴿٩٥/ ٥ : 19﴾

And everyone of them will come to Him alone on the Day of Judgment. ﴿19: Maryam\95﴾

19. **يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ**

جس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہو گا۔ ﴿82: Al-Infitar\19﴾

The day when no one shall have any power to do something for others, the command on that day, will be with Allah. ﴿82: Al-Infitar\19﴾

20. **أَلَا خَلَاءٌ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ**

(جو آپس میں) دوست (ہیں) اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ مگر پرہیزگار (کہ باہم دوست ہی

رہیں گے)۔ ﴿43: Az-Zukhruf\67﴾

Friends on that day will be foes, one to another, - except the righteous. ﴿43: Az-Zukhruf\67﴾

22. **وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ**

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ

اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو (کسی اور طرح کی) مدد مل سکے۔ ﴿2: Al-Baqarah\123﴾

Then guard yourselves against a-day when no soul shall avail another, nor shall compensation be accepted from it nor shall intercession profit it nor shall anyone be helped. ﴿2: Al-Baqarah\123﴾

يوم الحساب Accountability day

1. **يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا**

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جن (کے اعمال) کی کتاب ان کے

دائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو (خوش ہو کر) پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہو گا۔ ﴿17: بنی اسرائیل \ 17/m﴾

(17: بنی اسرائیل \ 17/m)

One day We shall call together all human beings with their Imams. Those who would be given record in their right hand will read it and they

will not be dealt with unjustly in the least. ﴿17: Bani Israeal / Al-Isra\71﴾

2. **يَوْمَهُمْ لَيُزَوَّنَنَّ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ لَئِن لَّمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۗ أَلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۗ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظَلِيمِينَ ۗ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۗ**

جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی جو اکیلا اور غالب ہے ﴿﴾ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج (کسی کے حق میں) بے انصافی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے ﴿﴾ اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جب کہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آرہے ہوں گے۔ (اور) ظالموں کا کوئی دوست نہ ہو گا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔ ﴿﴾

(40: المؤمن \ 16-18)

The day whereon they will come forth: not a single thing concerning them is hidden from Allah. Whose will be the sovereignty on that day?" That of Allah, the One, the Mighty. ﴿﴾ That day will every soul be requited for what it earned; no injustice will there be that day, for Allah is Swift in taking account. ﴿﴾ Warn them of the day that is drawing nearer, when the hearts will be right up to the throats to choke; No intimate friend or intercessor will the wrong-doers have, who could be listened to. ﴿﴾

(40: Al-Momin/Al-Ghafir\16-18)

3. **وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۗ**
اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا۔ اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ ﴿﴾ (2: 281)

And be afraid of the Day when you shall be brought back to Allah. Then every person shall be paid what he earned, and they shall not be dealt with unjustly. ﴿﴾ (2: Al-Baqarah\ 281)

4. **وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۗ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكُفَىٰ بِهَا حَسِيبِينَ ۗ**

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کسی کا عمل) ہو گا تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے۔ اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ ﴿﴾

(21: q/21)

And We shall set up balances of justice on the Day of Resurrection,

then none will be dealt with unjustly in anything. And if there be the weight of a mustard seed, We will bring it. And Sufficient are We as Reckoners'. ﴿٤٧﴾

(21: Al-Anbiy'a\47)

5. **وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِي مَآئِنَ مَلَكَّتُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَارًا وَآفِدَةً ۖ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا**
أَبْصَارُهُمْ وَلَا آفِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۗ

اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیئے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیئے اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیئے تھے۔ تو جب کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آسکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل۔

اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا۔ ﴿٤٥﴾ (45: Al-Ahqaf\26)

And indeed We had firmly established them with that wherewith We have not established you! And We had assigned them the hearing, seeing, and hearts, but their hearing, seeing, and their hearts availed them nothing since they used to deny the signs (Ayat) of Allah, and they were completely encircled by that which they used to mock at. ﴿٤٥﴾ (45: Al-Ahqaf\26)